

## سیدنا حسین ابن علی سلام اللہ علیہم

سید عطاء الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ

جماعتِ صحابہ ..... دنائے سبل فخر الرسل، مولائے کل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پروردہ جماعت ہے کہ جن کا حکم، حکم الٰہی، کلام الٰہی اور عمل منتها ربی ہے۔ مولائے کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین لاکھ سے متجاوز قدسی صفتِ صحابہ کی جماعت گرال مایہ میں فکر و نظر اور شعور و احساس کا وہ نور منتقل کیا کہ جو قیامت تک امت رسول ﷺ کے لیے ہدایت اور حریت کے راستوں کو جاتا رہے گا۔ نواسہ رسول، جگر کو شہر بتوں، نور نظر علی الامر تضیی، سیدنا حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ بھی اسی جماعتِ صحابہ کے فرد فرید اور لوئے للہ ہیں۔

سیدنا حسین ﷺ کی ذات والا صفات میں اسوہ رسالت کا بھی نورانی عکس نمایاں تر ہے۔ آپ کا اسوہ مقام صحابیت کی عملی تفسیر ہے۔ اور اس سے اس ارشادِ نبوی کی صداقت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے کہ جماعتِ صحابہ کا ہر فرد قیامت تک امت رسول کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ وہ سب آسمان نبوت کے روشن ستارے ہیں۔ وہ سب مومنین کا ملین ہیں۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ نے کلام اللہ میں دی۔ منافقت اور ایمان کی راہیں متعدد اور جدا جداب ہیں۔ بعض لوگ منافقت کا روپ دھار کر صحابہ کی جماعت میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی منافقت واضح کر دی۔ حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کا نام لے کر انہیں اپنی جماعت سے باہر نکال دیا تھا۔ اس فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی رسول کے ایمان میں شک کا اظہار بجائے خود منافقت ہے۔

سیدنا حسینؑ .....! صالح، زاہد، عابد، بامکال، منکسر المزاج، متوضع، شب زندہ دار، تجدی میں اللہ سے گفتوگو کرنے والے، اپنے رب کے حضور عجز کا انہصار کر کے طویل سجدے کرنے والے اور قیام طویل میں ایک یادو پارہ نہیں سورۃ بقر ایک رکعت میں پڑھنے والے تھے۔ جنہوں نے بچپن میں نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے پیار کی بہاروں کو لوٹا ہے۔ آپ کی گود میں کھیلے ہیں اور وہ ریحانۃ النبی ہیں ..... حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا.....

”یا اللہ! جو حسینؑ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسینؑ سے لغض رکھتے ہی اس سے لغض رکھے۔“

سیدنا حسینؑ کو نبی ﷺ کی معیت جسدی اور معیت زمانی حاصل ہے۔ آپ براہ راست فیضانِ رسول حاصل کرنے کے شرف سے مشرف ہیں۔ آپ کا یہ مقام و مرتبہ اور اجلال و اکرام ہی ہماری محبتوں کا مرکز و محور ہے۔ سیدنا حسینؑ کا واقعہ شہادت، منافقینِ عجم کے سازشی فکر و فلسفہ کا شاخانہ ہے۔ شہادتِ حسینؑ سے دین کی روح

عمل سمجھ میں آ جاتی ہے اور غیرت و محیت اپنے اوچ کمال پر نظر آتی ہے۔ سیدنا حسینؑ نے جہاں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلعتِ شہادت زیب تن کی، وہاں انہوں نے منافقین عجم کے اس گروہ خمیث کو بھی ہمیشہ کلینے رسوائی کر دیا جو ان کے ننانؑ کے دین کے درپے آزار ہو کر خلافتِ عثمانی پر مہلک وار کر چکا تھا۔

hadash کربلا کے پس مظہر میں یہودیوں، سبائیوں اور موسیوں کی منافقانہ سازشیں کار فرماتیں۔ خبر کی شکست، جزیرہ العرب سے انخلاً اور اپنے اقتدار کے چکنا چور ہونے کے بعد یہودیوں نے امتِ مسلمہ میں انتشار و افراق کی گہری سازشیں شروع کر دی تھیں اور وہ اسلامی حکومت کے استحکام اور تمیزی سے بڑھتی ہوئی فتوحات سے خوفزدہ ہو کر انتقام پر اتر آئے تھے۔ ادھر عجمی موسیوں کو اقتدار کر سی کے ملیا میٹ ہو جانے کے بھی نہ مندل ہونے والے زخم چاٹنے کی مصروفیت تھی، انہی دو نمایاں عناصر کو ایک حصی نبی یہودی مسٹر عبد اللہ ابن سباء جیسا شرد مانع سازشی میر آیا جس نے شہید مظلوم سیدنا حسینؑ کی شہادت تک مرکزی کر دارا کیا۔

۲۰ حصہ میں جب امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سانحہ ارجحال پیش آیا تو کوفہ کے کچھ منافقوں نے سیدنا حسینؑ کو خط لکھا کہ ”حسینؑ! تجھ کو مبارک ہو، معاویہ مر گیا!“ سازش اور فساد کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ کوئیوں نے سیدنا حسینؑ کو خطوط لکھے، خلافت پر متمكن ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، میدان خالی ہے۔ پھل پک چکا ہے، آئیے! ہم آپ کو امام مانتے ہیں۔ تاریخ کی روایات میں ہے کہ سیدنا حسینؑ کو بارہ ہزار خطوط لکھنے گئے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بیچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ پہلے ہزاروں کوفیوں نے ان کی بیعت کی پھر انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ چنانچہ جب سیدنا حسینؑ مقامِ ثعلبیہ پر پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے جناب مسلم بن عقیل کے بیٹوں سے مشورہ کے بعد یزید سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے اور اسی مقام سے کوفہ کی بجائے شام کا سفر شروع کیا۔ ابن زیاد اور شرجر جو مسلم بن عقیل کے قتل میں برآہ راست شریک اور ملوث تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر سیدنا حسینؑ یزید کے پاس پہنچ گئے تو اصل سازش عیاں ہو جائے گی اور مفاہمت ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کا راستہ روا کا اور اپنے ہاتھ پر یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ سیدنا حسینؑ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا: ”ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت؟ یہ میری موت کے بعد ہی ممکن ہے۔“ سیدنا حسینؑ کا یہ فیصلہ عین حق تھا اور غیرتِ حسینؑ کا یہی تقاضا تھا۔ پھر میدان کربلا میں سیدنا حسینؑ نے جو تین شرائط پیش کیں، ان پر ائمہ اہل سنت اور ائمہ اہل تشیع متفق ہیں اور دونوں طبقوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جو ”تاریخ ابن کثیر“، ”تاریخ طبری“ اور شیعہ کی مشہور کتاب ”الشافی“ میں کچھ یوں مرقوم و مرتسم ہیں:

”میری تین باتوں میں سے ایک بات پنڈ کرلو۔ یا میں اس جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں، یا تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں، وہ میرا عم

زاد ہے۔ پھر وہ میرے متعلق خود اپنی رائے قائم کر لے گا۔ یا پھر مجھے مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد کی طرف روانہ کر دو تو میں وہیں کا باشندہ بن جاؤں گا پھر جو فتح اور آرام وہاں کے لوگوں کو حاصل ہوگا، وہی مجھے بھی مل جائے گا۔ اور جو نقصان اور تکلیف وہاں کے لوگوں کو ہوگی، وہی مجھے بھی پہنچے گی (”الشافی“، ص ۱۷)

بھی وہ تین شرائط ہیں جو اہل سنت کے لیے فعلیہ کا معیار ہیں۔ اصل محرومین کی شناخت کے لیے بھی یہیں سے حقیقی بنیاد ہیں فراہم ہوتی ہیں۔ ان شرائط کے مطابعہ کے بعد کسی قصے، کہانی اور افسانے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور حقائق کھل کر، ابھر کر اور کھڑک سامنے آ جاتے ہیں۔

جو لوگ آج آلی رسول اور اہل بیت رسول علیہم السلام کی محبوتوں کا واسطہ دے کر حق و باطل کے خانہ ساز معرکے اخخار ہے ہیں اور فرقہ داریت کو ہوادے رہے ہیں۔ ان کی ساری خرمستیاں سبائی دولت، اشتہری حیلوں، حکیمی تحریر اور محترمی چالوں کا مظہر کامل ہیں۔ یہود و مجوہوں کی ساری نکتہ پر مرتكز ہے کہ تاریخ، ادب، سیاسیات، سماجیات اور اعتقادات کے ہر ہر کوشش میں شرک اور نفاق کے سانچوں میں ڈھلنے ہوئے بت کھڑے کر دیئے جائیں۔ میدان جنگ میں عربناک شکست اور ذلت آمیز موت سے پے در پے دوچار ہونے والے اعداء رسول و اعداء اصحاب رسول کے پاس یہی ایک انتقامی حرکت تھا جو پوری قوت سے مسلسل آزمایا گیا اور آزمانے والے وہی تھے کہ فتنہ و سازش اور شرک و نفاق جنم کی فطرت و طبیعت، ضمیر و خمیر، ہر رشت و نصال اور فکر و نہاد کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ جس کا دردناک مظاہرہ شہادت سیدنا عثمانؓ کی صورت میں ہو چکا تھا۔

”بندگی بوتراپ“ کا نعرہ سر زمینیں عجم کو اسی لیے راس اور خوش آیا کہ یہاں صنم پرستی، شاہ پرستی، اور شخصیت پرستی مزاجوں کا حصہ ہو چکی تھی۔ جہاں بندگی طاقت و دولت آئیں ہائے کہنہ و نوکے متن واحد کا درجہ رکھتی تھی، ایسی رت میں، ایسے ماحول میں اور ایسے موسم میں خیاثان عجم، یہود و مجوہوں کے لیے سازگاری ہی سازگاری تھی۔ چنانچہ ملت ابراہیمی کی عالمگیر وحدت کو پارہ اور امت محمدیہ کی ابدی شوکت و سطوت کو مجرور و مسخر کرنے کے لئے آل رسول علیہم الرضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور کر بلایا مقتل کا وہ آل رسول بنادی گئی۔ سبط رسول شہید کر دیئے گئے اور انہی کے نام پر ایک بنیاد ہیں گھڑا گیا، ایک بنیاد ہم متعارف کرایا گیا جس کے پچاری و بیوپاری گزشتہ تیرہ سو سال سے اسلام کے صدر اوقل میں اپنی جانکاہ ہر یکتوں کا انتقام لے رہے ہیں لیکن یہ دین اسلام ہے کہ خون صحابہؓ اور اسوہ و آثار اصحاب رسول علیہم الرضوان اس ناقابل تغیر قلعہ کی فصیلیں ہو گئی ہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے، سیدنا حسینؑ کا نام گوجتا رہے گا اور اسلام کی آبیاری کے لئے جان و مال قربان کرنے والوں (صحابہ کرامؓ) کا نام بھی تا بدتا بندہ رہے گا۔

حادثہ کربلا کا تعلق عقائد سے نہیں تاریخ سے ہے۔ عقیدہ کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ بعض لوگوں نے تاریخ کی بنیاد پر عقیدہ گھٹ لیا ہے۔ جو یقیناً جہالت اور گمراہی ہے۔ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے کہ سیدنا حسینؑ نے نہ تو اپنی بیعت کا مطالبہ کیا اور نہ ہی یزید کی خلافت کو کہیں غلط کہا۔ مدینہ، مکہ اور کربلا تک کسی ایک مقام پر آپ کے کسی خطبے میں یہ مذکور

کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں۔ کونہ کے سبائی منافقوں کے خطوط کی بنیاد پر آپ نے اصلاح احوال کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کو سفر کوفہ سے روکنے والوں میں عبد اللہ بن عباس (بیچا) عبد اللہ بن جعفر طیار (تایاز ادا اور یزید کے سر) عبد اللہ بن عمر (بجانجا)، محمد بن علی حفیہ (بھائی) عبد اللہ بن زیر جیسے آپ کے قریبی رشتہ دار اور عظیم لوگ تھے لیکن آپ نے اپنے فیصلہ میں تبدیلی نہ فرمائی۔ ابن زیاد اور شمر سیدنا حسینؑ کے قتل میں براہ راست ملوث و مجرم ہیں۔ شہادت حسینؑ کے بعد سیدنا زین العابدین اور سیدہ مکینہ یزید کے گھر ہے۔ یزید نے قسم کھا کر قتل حسینؑ سے برات کا بیان دیا اور سیدنا زین العابدین نے یزید کا بیان صفائی قبول کیا۔ یہاں تک کہ یزید نے انہیں ہدایہ اور مال اسباب دے کر منافقوں کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق مدینہ منورہ روانہ کیا۔ سیدنا زین العابدین ۹۵ھ تک حیات رہے۔ انہوں نے یزید کی وفات کے بعد بھی ۳۵ سال تک اس کے خلاف ایک جملہ نہیں فرمایا۔ تب تو وہ کسی جرکاش کا شکار نہیں تھے۔ جبکہ ابن زیاد اور شریعتی قتل ہو چکے تھے۔ سیدنا زین العابدین حادثہ کر بلکے عینی شاہد ہیں اور ان کی کوئی گواہی یزید کے خلاف نہیں۔ جبکہ مذکورہ بالاحضرات یزید کی بیعت پر قائم رہے۔

سانحہ کر بلکے سلسے میں اہل سنت کا اجتماعی موقف یہ ہے کہ سیدنا حسینؑ رضی اللہ عنہ کو ٹھیک اسی طرح دھوکہ دیا گیا جس طرح سیدنا علیؑ کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا۔ اس سانحہ عظیم اور حادثہؑ فاجعہ کو صحیح اور حقیقی سازشی کرداروں سے آگاہی کے لیے شہادت سیدنا عثمانؑ کے حرکات اور اسباب و عوامل کو جاپنا اور مجرموں کو پچاننا ضروری ہے۔ اس سازش کا مرکزی کردار یہودی انسل عبد اللہ ابن سباء منافق تھا۔ اسے سیدنا علیؑ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ اسی کی سبائی تحریک کے افراد نے سیدنا علیؑ، سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص پر رمضان ۴۰ھ میں بیک وقت فجر کی نماز کے وقت قاتلانہ حملہ کیا۔ سیدنا علیؑ شہید ہوئے۔ سیدنا معاویہ زخمی ہوئے اور عمرو بن عاص بچ گئے کہ اس روز وہ مسجد میں تشریف نہ لائے۔ ان کی جگہ خارج بن حذیفہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔

سیدنا حسینؑ نے اپنے خطبہ میں خود فرمایا کہ ”میرے گروہ کے افراد نے مجھے دھوکہ دیا“، سیدنا حسینؑ رضی اللہ عنہ کو فی دھوکہ بازوں، منافقوں اور سبائی تحریک کی سازش کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مکہ سے تعلیمی تک کا سفر اصلاح احوال کے لیے فرمایا۔ سازش عیاں ہونے پر تعلیمی سے کونہ کی بجائے شام کا رخ اختیار کیا۔ یوں کر بلکا سفر، سفر، قصاص مسلم بن عقیل ہے۔ کر بلایں آپ نے فرمایا: ”میں اصلاح احوال کے لیے آیا ہوں“، پھر تین شرائط مفہومت کی پیشکش ہیں۔ سیدنا حسینؑ نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو یہ ان کا اجتہادی حق تھا۔ بحیثیت صحابی رسول وہ اپنے اجتہاد پر قائم رہنے یا اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتے تھے کہ مجہتد و نوں صورتوں میں ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ، تعلیمی اور کر بلائیوں مقامات پر جوں جوں صورتحال آپ پر واضح ہوتی گئی، آپ کا اجتہادی موقف بھی بدلتا رہا۔ اور سازشی کردار بھی واضح ہوتے چلے گئے۔ کر بلایں یقیناً ظلم ہوا۔ اس ظلم میں ملوث سازشی ناقابل معافی ہیں اور سیدنا حسینؑ اور سیدنا زین العابدینؑ کا موقف برحق ہے۔